



## THE ANSWERS MUST BE ATTEMPTED ON THE ANSWER SHEET PROVIDED

اس پرچہ کو مہیا کی گئی جو ابی کاپی پر حل کریں۔

(20) سوال نمبر 1: مندرجہ ذیل آیات کا اردو/انگریزی میں ترجمہ کریں:

Q.1. Translate the following Verses into Urdu or English Language.

1. الر كِتَابٍ اُخْكِمَتِ اَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

2. الر تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

3. الْعَرَبُ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ

4. الر كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرٰطٍ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

5. الر تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

(10) سوال نمبر 2: "رب" کے ساتھ ضمائر متصلہ لگائیں اور ان کے معانی بتائیں:

Q.2. Use attached pronouns with "رب" and give their meanings.

معانی	الفاظ	معانی	الفاظ
	ربُّ + كُمْ		ربُّ + هُ
	ربُّ + كِ		ربُّ + هُمْ
	ربُّ + كُنَّ		ربُّ + هَا
	ربُّ + ي		ربُّ + هُنَّ
	ربُّ + نَا		ربُّ + كَ

(10) سوال نمبر 3: مندرجہ ذیل الفاظ کا اردو/انگریزی میں ترجمہ کریں:

Q.3. Write the meanings of the following Qur'anic words.

معانی	الفاظ	معانی	الفاظ
	اَحْسَنُ		صُدُوْرٌ
	الْقَيْبِ		تِيَابَ
	الصَّلٰوةِ		الْمَاِءِ
	اَكْثَرَ		رُءْيَا
	كُلِّ		شَدِيْدٌ

(10)

سوال نمبر 4: مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے واحد کی جمع لکھیں:

Q.4. Write the plural with the given words.

منظرین، حافظون، قلوب، آباء، کواکب، غلمان، شمس، دلاء، بیوت، ایام، مجرمین، اراضی، اموات، آیات، قمصان، اصحاب، خالدون، ارحام، معقبات، صادقین

واحد	جمع	واحد	جمع	واحد	جمع	واحد	جمع
یوم		شمس		آیة		صادق	
ارض		قميص		صاحب		منظر	
میت		ذلو		خالد		حافظ	
اب		غلام		رحم		مجرم	
کوکب		بیت		معقبة		قلب	

(10)

سوال نمبر 5: آیات کو ان کے ترجمے سے لکیر کے ذریعے ملائیں:

Q.5. Match the verses with lines to the translation.

ترجمہ	آیات
حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔	1. وَ أَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ.
وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔	2. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ.
(اے پیغمبر!) انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھالیں، مزے اڑالیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عقرب انہیں پتہ چل جائے گا (کہ حقیقت کیا تھی)۔	3. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
یہ (اس وقت کی بات ہے) جب یوسف نے اپنے والد (یعقوب علیہ السلام) سے کہا تھا کہ: ”اے باجان! میں نے خواب دیکھا ہے۔“	4. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ.
اور یہ (ہدایت دیتا) کہ: ”اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔“	5. ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِيهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.